



## سوال

(204) جو آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے؟

## جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

ایک آدمی رمضان کے روزے نہیں رکھ سکتا وہ کیا کرے۔ (حاجی عبد الرحیم پنڈی گھیب خریداری نمبر 1497)؟

## الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اگر کوئی بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا تو اس کی دو صورتیں ہیں اگر آئندہ تندرست ہونے کی امید نہ ہو تو قضا کے بجائے وہ فدیہ ادا کرے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ روزہ کی طاقت نہیں رکھتے وہ فدیہ کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ (2/البقرة: 184)

اگر کوئی اتنا بوڑھا ہو گیا ہو کہ روزہ رکھنے کی ہمت نہیں رہی تو وہ بھی فدیہ دے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فتویٰ ہے فرماتے ہیں کہ بہت بوڑھے کے لیے رخصت ہے کہ وہ خود رکھنے کے بجائے ہر دن کسی ایک مسکین کو دو وقت کا کھانا دے دے اور اس پر روزہ کی قضا نہیں ہے۔ (مستدرک حاکم: ج 1 ص 44)

اگر بیماری سے تندرست ہونے کی امید ہے تو اسے چاہیے کہ بعد میں فوت شدہ روزوں کو دوبارہ رکھے۔

هذا ما عنہدی واللہ اعلم بالصواب

## فتاویٰ اصحاب الحدیث

جلد: 1 صفحہ: 227



مجلس البحث الإسلامي  
مجلس البحث الإسلامي